

#### **Ministry of Environment**

Male', Republic of Maldives.

**1**7/6/2019

## سُور سُور 1 - ورسر سوع

יני גע אל אייניים היי מער בע אל אייניים הפר	بر کو برکٹر ہے سرکٹرہ نیز
0.03%	مرمره پر
כנייל הליל הליל הליל בתל אל של ליל אל של ליל המת הלא של אל אל אל הליל המת הלא של אל אל אל אל אל אל אל הליל אל	
ر در گورد و در	1.1
رد و کو کر مرکف کر از ۱۲ کا کا کا ۱۲ کا	
هوس (مرروز مري موهم برمريز: هوس (مرروز مري موهم برمريز:	
ביים היים היים היים היים היים היים היים	
ב ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה	0.1
3018300 :££:	8.1
رِوْرِوْ دُنْ مُنْ وَ procurement@environment.gov.mv رَوْرِ وَنَا مُنْ مُنْ اللَّهِ	
waste@environment-gov-mv	
ירופיי היינורי בייני איני איני איני איני איני איני אי	
פָּאָת אַר כִּיתָשׁ הַּתְּקָּ	
בת מים אם אינים ליים אינים אינ	9.1
ي ش.: 3018300 غير : 3018300	, ,
رِدُرِدُ رُدُّ مُنْ عُرْبُ: procurement@environment.gov.mv دُورِدُ وَمُنْ مُنْ	
waste@environment·gov·mv	
رُدُ رُمُرُرُوْسُ وِ هُوْدُ وَهُوْدُ سُوْسُوسُ 4.1 رُعِرِ 4.2 رُعِرِ 4.2	12.1
، ه ، د د ، د ه ، د ، د ، د ، د ، د ، د	
رُور: وبربوء به مرور مرور مرور و مرور مرور مرور مرور م	
گرير <sup>2</sup> : 23 تخيير 2019	14.1
وْرُوْتُ: رُورُمُ	
14:00	
00000000000000000000000000000000000000	
هُرُ: وَمِرْ - مُعْمِدُ مُرْهُ مُ *	16.2
گریرژ: 25 تخیر 2019 قروَّت: رَسِرِیْ بَرَ	10.2
کووے، برگرویر کے: 11:00	
שַּלָתְּמֶלֶה פָשׁתִינִית בַתְּצִית בַּנְבֶּירָ 6 צֹה הפֹתְהפָ. שַּלְתִּמֶלָה פָשׁתִינִית בַתְּצִית: בַּנְבֶּירָ 6 צֹה הפֹתְהפַ.	20.1
عَدْ مُورِدُم مُورِدُ رَمْرَزُوسُ فِي رُمْرَوْرُ رَمْرُورُ مُرَورُ اللهِ مُعْرَدُ اللهِ مُعْرِدُ اللهِ مُعْرَدُ اللهِ مُعْرِدُ اللهِ مُعْرَدُ اللهِ مُعْرِدُ اللهِ مُعْرِدُ اللهِ مُعْرَدُ اللهِ مُعْرِدُ اللهِ مُعْرِدُ اللهِ مُعْرِدُ اللّهِ مُعْرِدُ اللّهِ مُعْرَدُ اللّهِ مُعْرِدُ اللّهِ مُعْرِدُ اللّهِ مُعْرِدُ اللّهِ مُعْرِدُ اللّهِ مُعْرِدُ اللّهِ مُعْرِدُ اللّهِ مُعْرَدُ اللّهِ مُعْرَدُ اللّهِ مُعْرِدُ اللّهِ مُعْ	
ع المرادع و و ع ع و درور ع و درور و درور و مردور مردور مردور مردور و درور و درور و مردور مردور مردور و درور و درو	28.1
	20.1
هُرُدِه بُرِيْهِ وَدُوْهُ صِ 90 دُرِدُهُ وَهُرَدُهُ وَهُرَدُهُ وَهُرَاءُ وَهُرَوْهُ مِرْهُ. هُرُرِدْس وَبِرِيْس وَقِرُوْدُس 90 قرورَدُ وَهُرَوْهُمُرُوْ.	2.0
رُّ بِرُورْسُ مُعْرِمِ مُعْرِي مُرْدُونُ مُرَدُّ مُرْدُ مُرُدُّ مُرُدُّ مُرُدُّ مُرُدُّ مُرُدُّ مُرُدُّ مُرَدُّ	30
י ליים הי ביינים או בסירה ניים אים הי ביינים אים איינים אים ביינים אים ביינים אינים באים ביינים אינים באים ביינים ביינ	30

ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב		
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
و د مشهرده به گرد بر مشروع وی کرده برده برده برده برده برده و کردو برده و کردو برد برده برده برده برده برده برد	1.1.	1. 3×96 5390
ئىكىدۇۋىر ئىرى دە ئىكىدۇ ئىكىدى، ھۆتى ئىردىرى ئىردىدۇنى ئىكىددۇدۇ ئادەھ دەرى 4 ھىرى دىرىسىرىكى ئەد رائى ئەتىر ئىس دىن ئىگ دىرى ئىگ ئىردىدۇد، دىرىسىرىكى ئەردى ئىل ھىردى دى بەرى بەركىرىدۇرى دىردىدى بەرىسىرىكى ئىلىدى دىسادىكى ئىلىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدى		
هُ وَسُرُ رَدْوُرُو وَرَوَسٍ، وِرَدُّهِ بَرَةٍ سُعْمِ لَا يُرْدُدُ كُلْرِسُ (كُلْرُسُ سَرَسُهُم:  (18/2014) كُ مَرْسُ وِرَوِّسِ بَرَةٍ سُعْمِ لَا يَرُودُ مِرِدُرِ صَرِّسُولُم يَّ وَيَرُّمُونَ مَنْ وَرَدُّ مِنْ مَرْسُ مَنْ وَرَدُّ مِنْ وَرَدُّ مَنْ وَرَدُّ مَنْ وَرَدُو مَنْ وَرَدُو مِنْ وَرَدُو مَنْ وَرَدُو مِنْ وَرَدُو مَنْ وَرَدُو مِنْ وَرَدُو مُنْ وَرَدُو مِنْ وَرَدُو مِنْ وَرَدُو مِنْ وَرَدُو مِنْ وَرَدُو مِنْ وَرَدُو مِنْ وَرَدُو وَرَدُو مُنْ وَرَدُو مُنْ وَرَدُو مُونِ وَرَدُو مُنْ وَرَدُو مُ وَرَدُو مُنْ وَرَدُو مُونِو وَرَدُو مُونُو وَرَدُو مِنْ وَرَدُو مِنْ وَمِنْ وَرَدُو مُ مُنْ وَرَدُونُ مِنْ وَرَدُو مُنْ مُونُونُ مِنْ وَرُورُونُ مِنْ وَرَدُونُ مِنْ مُنْ وَرُونُ مِنْ وَرَدُونُ مُنْ وَرُونُ مِنْ وَرَدُونُ مِنْ وَرَدُونُ مِنْ وَرَدُونُ مِنْ وَرَدُونُ مِنْ وَرَدُونُ مِنْ وَرُونُ مِنْ وَرَدُونُ مِنْ وَرَدُونُ مِنْ وَالْمُونُونُ مِنْ وَرَدُونُ مِنْ وَرُونُ مِنْ وَرَدُونُ مُنْ وَرَدُونُ مُنْ وَرُونُ مُنْ وَالْمُونُونُ مِنْ وَالْمُونُ وَالْمُونُ مُنْ مُنْ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونُ مِنْ مُنْ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ ولِونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ	2.1.	2. """ "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "
2.1.2 ئۇھىرىرىشەنى ئۇشىرى كۆرى كۆلەشىمى ئىمورۇرۇ ئۇھىرىرىسەنۇرۇر. 2.1.3 ئۇنىھۇ ئىسىرىيى ئەشىرى كۆرىش كۆلەش كۆلۈرگى ئۇرىھۇ		
ئىلىرى ھۇر. 2.1.4 ئۇرۇش ورۇپرى ئۇرىش ئۇسى ئۇرىش ئۇسىۋىر ئىموۋرۇ رورۇ		
ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב	2.2.	
ورُسْرَهُ هُسْرَسُوْسِ دِ رِهْرُدُ غَيْرُورُ 1 دَرِقٌ وَرُسْ (بَرَرَدٌ وَبُرُهُمَادُ كُونُوسُوهُ دَرِقٌ رِهْسُرُبُّارٍ ٤ بِالْدَسْجُهُ مِنْ رَفْسِدُهُ مُنْهِمُوسٌ هَرِسِدُ نَيْرُووُرُوْ.	3.1.	א א א א א א א א א א א א א א א א א א א
ور در در در در ورورد و به در	3.2.	15590 1057
3.3.1 $3.3.1$ $3.3$	3.3.	

3.3.2 كُور درد كان و كان در درو كان در درو كان و كان و كان و كان و كان و كان			
سترر تر مُرَّدُ دُ وَمُرْمَا مُرْ سَرِ لَا تُرْدُو وُ رُدُو وَرُوْمَا مُرْ مُرَّمَا مُنْ الْوَامِ دُوْ			
השלתית"ל הצוחה בת''ל שלחהלי			
3.3.3 كَوْمُرُعُ وَ كَسَرَعُ وَمُرْدُ وَمُرْدُ وَمُرْدُ وَرُدُ وَرُدُورُ مُرْدُ وَمُرْدُورُ مُرْدُورُ وَرُدُورُ			
مَرْدُنْ يُرْدُونُ لَا يُرْدُونُ دُرُونُ دُرُونُ مُرْدُونُ مُرْدُونُ الْمُونِدُ "يُونِدِ الْمُونِدُ "يُونِدِ الْمُونِدُ الْمُونِدُ الْمُونِدِ الْمُونِدِ الْمُونِدِ الْمُونِدِ الْمُونِدِ الْمُونِدِ الْمُؤْنِدِ اللَّهِ الْمُؤْنِدِ اللَّهِ الْمُؤْنِدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ الللَّالِي الللَّ			
רש מת "ל מון הר ל לתל שתרם.			
3.3.4 وَمُوْرِ وِمُرَّدُونُونُ وَمِوْمَاءُ مِنْ مُرْمَدُ وَمُؤَمِّدُ وَمُؤَمَّدُ رَمْزَةً وِمُسْمَوْنَ وَرَ			
مَرْدُدُ بِي مُرْدُونُ وَرُونُ مُرْدُونُ وَرُونُ مُرْوِدُ وَرُودُ مُرْدُونُ مُرْدُونُ مُرْدُونُ مُرْدُونُ الْبُوعُمِ مُرْدُو			
) א און א א מר בררם אין אין השתני צע מוך החת בתרפת פיתחפי			
ورور درور درور درور درور درور درور المرور درور ورور درور درو	4.1.	4.	57 (UL) 5740 PV
0 1 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 0 3 1 1 1 1 1 1 1 2 0 3 1 1 1 1 1 1 1 2 0 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			بر تر تر
6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			
\$	5.1	5	מנים מנים מנים הממל הממל ה
00000000000000000000000000000000000000	J. I.		7775 776 17 (222 27 (224 27 (224)
ئۇنگەرىمەن دەرگەر بىرىگە دەرۇپ ئۇنگۇرىكى ھۆۋىگەر دۆگۈر ئۇنگەر بىرىگەدە دەرگەرىكەن ئىرىگەرىدە .			31 3744
		,	0 ( ) (
שלית ליתל באפעי ביתר של אל האל המקפת אל ליכי ליכי ליכי ליכי ליכי ליכי ליכי ל	6.1.	6.	ה'לית לית ה'לית לית
رهُ مُرَدِدُ وَمِرْدُ سُومُ وَوُدُعَ وَوُدُعَ وَوَدُعَادُ كَ سُومُ وِدُوْمِ كَ دُوْدُ دُمُ			0 / 272 2 1 <del>6 / 4 /</del> 1
1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
و وَيْ وِهْوْدُ رَرَسُو رُدُعُ مُهُمُ مُسِودُ مُعْمِوْ مِفْدُ مُسْدُونًا شُوْدِ دُ عَوْسٌ عُمِوْ			
( , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
		رمُور	(ת) <u>ש</u> קל בצ קחש
יונט דר הינו האלו אין האלות האלות האלות האלות הליינו או הליינו האלות האלות האלות האלות הליינו הליינו הליינו האלות האלות הליינו הלי	7.1.	7.	1563 010
7.1.1 هِ وَسُرْ سَوْعُ (سُوْرُ الْمُوْرِ الْمُورِ الْمُورِ الْمُورِ الْمُورِ الْمُورِ الْمُؤْرِدِ اللَّهِ الْمُؤْرِدِ اللَّهِ الْمُؤْرِدِ اللَّهِ الْمُؤْرِدِ اللَّهِ الْمُؤْرِدِ اللَّهِ الْمُؤْرِدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِينَ اللَّهِ الْمُؤْرِدِ اللَّهِ الْمُؤْرِدِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّلَّالِي اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ ال			15/0 27
7.1.2 ﴿ وَمَرْرَدُ وَمَرْرَدُ وَكُرُوهُ وَمَرْدُونُ إِرِيْدِ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ أَنْ مُورِدُونُ وَاللَّهُ مِنْ مُنْ أَلَّمُ مُنْ أَنْ أَنْ أَمُونُ مُنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَمْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَن			
7.1.3 ئى ئۇرۇرۇرۇر (ئىشىشىر-3)			
7.1.4 وَسُورُورُ وَ رَدُورُ وَ (سُورُ 4-4)			
י מו	8.1.	8.	15740
ري در وغير وغيري مرسوع لايروسرو مروي مرس مور در مورس مروي و در			برُج سوع پر کرثر
בית התלית התלית התלית באבט של המתמת התלית בור ביני ביני ביני ביני ביני ביני ביני בינ			<i>y</i> - <i>y</i> -
מוצר ת-בתיפער מפ משת ל המו ל מוצי מו			
	<u> </u>	1	

		<del>                                     </del>
מת ליים המתל המל מנה ליים מים ביים מים ביים מים ביים מים מל מל מים	8.2.	
ברבעצו תנת משעת בנתל בעם בעל.		
0.00 \$ .00 0 \$0.20 0.228 0.622. 22 0.282.	0 1	0 03×43 %/
0100 4 10 01 1100 01010 01000 00000 00000 000000	7.1.	·
פרכם במוכבם ממכז בתקבם הבמתבת במוכב למתב של מים מים בכם תוכש התהלבתי המכז בתקבם ההבמתבת בל המק של של המישת קחבש		2422 824A2
אר ב ט ט ט ט ט ט ט ט ט ט ט ט ט ט ט ט ט ט		2222 2020 2020 2020 2020 2020 2020 202
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9.2.	
** ה' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '		
ים דרכנו ליו ביו ליו ליו ליו אים אים אים מים אים אים אים אים אים אים אים אים אים א	·10.1	مورور مورو
ניתרה קברבתי הכיתי ביתים ( (הית/ת ביד) בית פיתרה פ.		0 2 / C מממת
10.1 צרם צפת בעל הפתו בתש שלכם שהעם. הב ה התרפה שלכם	10.2.	
ירוני לירוני לי		
) קור קיין - כ' כ' קור ב' כ'		
		(ת) <u>ש</u> ת'יע ה'' ה'' ג'י ג'יע (ע
01×0( 1/17) 1/2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		,
בקפים ביינית בל הל בל		" ( د د د د د د د د د د د د د د د د د د
יין איין איין איין איין איין איין איין		·
2.00		
יני אני איני איני איני איני איני איני א	12.1.	عور د کرر کارسر ال
		مُمْ وُرِبُ
שילבת פע בפעת מב התרליתה העת שילית הייש בה שתיתעת בהפתחפי	13.1.	13. حَرَرُوْهُمْ 13.
ש. מרשים אל	13.2.	
ה מו של ה מו מו מו אין ביר מין מו אין אין מו אין מין מין מין מין מין מין מין מין מין מ		
وَسَادُهُ مِنْ مُرْ سَارِهُ مُرَوِّدُهُ مُرِيرُ مُرِيرُ وَمِرْدُ وَمُورُ وَوُسُورُ مِوْ مُرَدُورُ 120	14.1.	14. <i>دُو</i> رُمْ
ניני ) אין ניים מים מים מים מים מים מים מים מים מים		
٩٥ مُرْدُهُ دُورُورُهُ مُرِّدُورُ مُرْسُرُسُوسِ صِوْسُ رَبُرَارٌ مُرْسِرُسُ وَبِرِيْسُ وَيُرْوَدُسُ مِوْرُدُهُ وَرُمُونُ رَدُورُ مُرِّمِ مُرْسُرُسُوسِ مِوْسُ رَبُرَارٌ مُرْسِرُسُ وَبِرِيْسُ وَيُرْوَدُسُ 90	15.1.	15. 26.03 63/0
ردر ده در		
של הלול הל הל הל הל ל הל הל הל הל הל הל הל הל	16.1.	16. 205/0
ה לי היי לי היי היי היי היי היי היי היי		ה א א א א א א א א א א א א א א א א א א א
(2 نَحْرُورُو مَوْرُورُو مِوْرُورُو مِوْرُورُو مِوْرُورُورُورُورُورُورُورُورُورُورُورُورُور		אריים איני אריית פאר
* ' '		
16.1.2 ئىشۇسرا بۇھىرىدىمۇرا ئاۋېرىغۇ ئىسسەرچا دۆردۇ ئۇندۇسۇد ودۇرىرد		
ئري سُوع پُرِي ٽَرِدِ		
16.1.3 وْبِرِرُونَاتُرُورُو صُونِرْ رَبِرَرُدُ وَيَرُورُو وَ وَكَالِمُورُ وَيُرْدُورُ وَ وَكَالِمُورُ وَ وَكَالِمُورُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَلَامُورُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَلَامُورُ وَالْمُؤْرِدُ وَلَامُورُ وَالْمُؤْرِدُ وَلَامُورُ وَلِمُورُ وَلَامُورُ وَلِمُورُورُ وَلَامُورُ وَلِمُورُ وَلَامُورُ وَلِمُورُ وَلَامُورُ وَلِمُورُ وَلَامُورُ وَلِمُورُ وَلِمُورُ وَلِمُورُ وَلِمُورُ وَلِمُورُ وَلِمُورُورُ وَلِمُورُ وَلِمُورُ وَلِمُورُ وَلِمُورُ وَلِمُورُ وَلِمُورُ وَلِمُورُ وَلِمُورُ وَلَامُورُ وَلِمُورُ وَلِمُورُورُ وَلِمُورُورُ وَلِمُورُ وَلِمُورُ وَلِمُورُ وَلِمُورُ وَلِمُورُ وَلِمُورُورُ وَلِمُورُ وَلِمُورُولُورُ وَلِمُورُورُ وَلِمُورُ وَلِمُورُ وَلِمُورُ وَلِمُورُ وَلِمُورُ وَلِمُورُ وَلِمُورُ وَلِمُورُ وَلِمُورُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ		
	<u> </u>	

16.1.4 وُحْرَبُ مُو (مُعْ سَمُسْرُ 4.1 ،4.2 مُرَدِ 4.4 وُمِرُو عُمْرُ)		
مُرْمَد عِ مُرْمَد عِ مُرْمِ مُورِمُ مُرْمَ مُرْمَ مُورِمُ عُورُمُ عُورُمُ عُورُمُ عُورُمُ عُورُمُ اللهِ		
ئر بى مەھ بىر ئىرىدۇر. ئىرىجى سەھ ئىرىدى ئوردۇسىرىد)		
16·1·6 حَرْدٍ وَكُو وَ مِرْمُرِينَ عَرْفِسِرْدُ مَرْمَعِيْ وَرَدِي عَامِهُ مَوْمِرُهُ مِرْجُوعَ دُ		
איג (בני ה' כני 2 ב' ה' ה' ב' ה' ל' " א'		
16.1.7 من سرتمرها دُ دُودر فرور 12000.00 (هُمَ رَّتُ وَرُو مُرَدَّمُ) دُ		
ים בתו בם בתו בם במות בתו בם בתו בתו במות במות במות במות במות במות ב		
יים ליים ליים ליים ליים ליים ליים ליים	16.2.	
2,00 c 2000 c c c c c c c c c c c c c c c		
16.2.1 جوس ترزي كالمرعة ورسمة مد المراعة والمردد ترورد		
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,		
ית אר ב אין בארט בין בין אין אין אין בין בין בין אין אין אין אין אין אין אין אין אין א		
ב' ב		
وُسَمِرُ مِنْ مُرْدُو مُرِّدُ وُسَمِرُ مُنْ وَالْمُرْدُ وَمُرْدُ مُرْدُ مُرْدُ وَسَمِرُ مُوهُ		
מו 0 × 0 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /		
16.2.2 ﴿ وَرُرُو وَ		
עם אני אנאית לשא אני באל הששבית באל הערית באל פאנאלע		
שת כל האב מש אינו ל אינו ל אינו ל אינו אינו אינו אינו אינו אינו אינו אינו		
(مر) دروژه ه سرکز:		
Profit and Loss Statement) Income عُوْدُورِمُ 2 مُرَيْرُهُ 1		
Statement گُدُو مَرْسِرٌ دَرِ مَرَمَّدٍ ، وَدِعْرَادِ وَدُوْوَ وَرَبِي رِسَّوْ) -		
2 گُوهُ وَرِمَرُ 2 مَرَثَرُهُ Balance Sheet (مَرَبِرٍ خُوبُرْتُ سَمِعٌ)		
פרטי ברסי אין איניבי ברס אינים איני		
י מיי א מיי אין אין אין אין אין אין אין אין אין א		
א איין איין איין איין איין איין איין אי		
(سر) توروس و ورو هو مور مرری کرده کرده در کرده کرده و کرده و و و در مرده در این کرده کرده کرده کرده کرده کرده کرده کرده		
1. غَرُورُ 4 دُرِهُ وَرَغِرُ هُرُرُمُورُورُهُ وَهُومِرُدُ 2 مُرَبِّرُهُ مُرْرُدُهُ وَهُومِرُدُ 2 مُرَبِّرُدُ مُرْبِ		
رسر ماد مع المحادث المادة الما		
2. گُوهُ وَرِمَرُ 2 مُرَيْرُهُ هِ ٤ تُرَبِّرُ وَيُرْهُدُ كُسُرُمُ وَيُرَدُونُ (مُرِدُهُ)		
00/0U0 2m22e		
		(x) פּרִשׁל לעל ב''ב'נע
ים 20 יו	17.1.	
		2 ב אין אינט ע אישק צ פא

הש המנה שמצה שקב ל יתית קות צה המתינית פיתר פי	17.2.	
יים האת ב מת בל בל ליים מת בל היים לא בל מת בל האל	17.3.	
? כ' ה' כ' ב' מ'		
ייניל של מל המתימשת שמצ על פצופ ומש האוצו של מי ביש בייני	17.4.	
۵۵ و د د د د د د د د د د د د د د د د د د		
ה ב אורים בא היינים לא היינים בא מינים בא היינים בא היינים בא מינים בא מיני	18.1.	عور رسر دود که
سته ه کر در گرار کرد. در گرار کرد.		2°0 ک سوسری ځ
وِ دُرُمُرُدُ 18.1 دَرِ صَمَّرُ نَهُ وَدُرِهُ مُهِرِنَا سَهُمَّتُمْ صَارَقُ فَرُورُرُدُ خَمْدُدِ	18.2.	
سَهُوْ الْوَدُو رَوْعُ وُسُورُ وِ وَمُو رُورُونُونُ عُلَا وَوَرُو مُرَاءُ وَاللَّهِ عَلَى مِنْ وَوَ		
.01 0 0 0 000 000 000 000 000 000 000 00		
י י י י י י י י י י י י י י י י י י י	18.3.	
ور در	19.1.	ور فره کرده کرد در اور اور اور اور اور اور اور اور اور او
		מן ענין מקנים האינית ניקרים
		عُرِّد وَثَرُ مِرْوَرُ
		כ אי ) אב 0 ע אקניית צ 6
יר מ פא מייני	2047 217	(۵) هوسر روودر رو
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	1	1
	1	1
و دسامه درره هوسهد روود رده روس وسر هوس درره وسره	1	1
دِ دَسَمُ مُورِدُ رَبِرَرِدُ صِرْحُرُهُ رَدُودُ رُدَى رَدُهُ وَيُر صِرُورُ رَبِرَدُ وَيُمْ صِرْدُ وَيُمْ مُورُ دِ دُسَانُ مُرَادُ وَيُرْمُ مِنْ رَدُودُ مِرْدُ وَيُرِدُ وَيُرْدُ وَيُرْدُ وَيُمُورُ وَيُمُورُو رَبِيْ وَيُرْد	20.1.	1
دِ دَسَمُرُ مُرَدِدُ هُوْرُهُ ( رُدُوْرُهُ رُدُوْرُهُ رُدُوْرُ رُدُوْرُ وَهُمْ هُوْرُ دُرِرُدُ وَمُرْهُ وَكُو شُوهُ رُوْمُوْرُ هُوْرُ ( رُدُوْرُهُ رُدُعُ رِوْرُوْ هُسُرُ وَسُرُ وَسُرُو وَمُرْهُ دُمُ مُرَدُدُ هُوْرُو سَوْهُ دُوْرُ هُمُرِدُ دُرُوْرُ رُدُعُ رِوْرُو هُسُرُ وَسُرُ وَسُرُ وَسُرُو وَمُرَّدُ دُعِمُ مُرَدُدُ هُوْرُ	20.1.	1
פר בר	20.1.	1
ر در	20.1.	1
בר ב	20.1. 20.2. 20.3.	20. סיבית הצפית 20.
ر در	20.1. 20.2. 20.3.	20. סיבית הצפית 20.
בר ב	20.1. 20.2. 20.3.	20. موسر رووسر پوسر رووسر 21. ترکو مورد کاری
ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב	20.1. 20.2. 20.3.	21. \$1370 \$177
ב ב	20.1. 20.2. 20.3. 21.1.	21. "23. "27. "27. "27. "27. "27. "27. "27. "27
و دساده و در در و و در در و و در در و در در و	20.1. 20.2. 20.3. 21.1.	21. \$\\ \frac{2}{2} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\
و دسامه مر ارار و و بره در اردور ارد و برا و و بر و بر و بر ارار و و بر و بر	20.1. 20.2. 20.3. 21.1.	21. \$1370 \$177 21. \$1370 \$177 22. \$200 \$177

026/ / 006 /06/6 //0//07 / /2/ 22.12		0 / 0 0 X 0 L
22.1.3 هرو دُور و دُرو مُرَار و دُرو هُمُ مُرود مُرار و مُرود مُراد مُرود مُرو		ئى ۋېدى ۋە ئۇرۇ
( نیرسو پر سرسو کو سرسو )		03 C / 151 E / V
(מול של מילים בארש בארש שמפית 22.1 בירש שילים בארכם של מילים.	23.1.	23. 25.22
		מנמם ככם מצית פתאפת
שלית /פרנ"ט וליים ליתול שלית באיתי שלית באיתי שתחת עמות בית בית בית באיתי שלית באיתי שלית באיתי שלית בית בית בית בית בית בית בית בית בית ב	24.1.	ورس روورگر
מ' פ' מ' פ' מ' פ' מ' פ' מ' פ' פ' פ' מ' פ'		מינים מיתוב נתיבות ד'יניסם מיתוב נתיבות
רוש בא בא מיל לא לא בא	25.1.	م و سُرْمُ سُرْ
לרושל המיל של היים לי היים לי היים לה היים לי היים ל		۵ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
של מל מל מל מל בעל בעל האל של מל		
وبرؤيرة وموسودو. دير موسوره مؤرد ودروز (مركزورو دومالا		
המת ב מימים הב המת מת כל המת במת הל המת מקום המת מורים במת המת של המת במת במת במת במת במת במת במת במת במת ב		
) 0 ,00 ( 0 ) ( 0 ,0 ) ( 0 ) ) ) אינם ט ט ט ט ט ט ט ט ט ט ט ט ט ט ט ט ט ט ט		
هرا الرورة و و المراكز المراكز و المراكز و المراكز الم	26.1.	שלית ערתטעל 26.
		19 8×3
		ממם מסכם ממת מתצית
שלים " "ני לאלים אלים אלים לאלים לאלים לאלים שלים לאלים לאל	27.1.	27. 15332-625
مُنْكَارِ وَسَهُرُمَاهُ لَا يُوْفِرُ مِنْ مِنْ مِرْدُورُ رُمَاشُ وِسِرَاهُ جِهِرُدُ رُسُوكُمْ وَمُر		ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב
مره المرود و المركز وسامه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و	27.2.	
אריניים ליניים		
צֹפֿרְבָנֵג 17.19 צֹרְ שׁתְּעִיעִ צָּרְפִּ צֹבּנִכֹּלְפָּע נְרִפְּנֹרְאִיעִרְפִּ		
	برع مدر	(د) رُمُرُرُوسُ في سُمِيرُ
هرور سوه کار هارس ۱۰۰ کار از	28.1.	28. פיל איניקאף
ב / / / 0 % ) ) ) קיק / עד פית חפי		
ם ) כ ) כ ) כ ) ארן בריינט אין ארץ פיינט אין פיינט פי	28.2.	
ر در		
בר אין די		
מלת ער מש לא לא מעת מער מא לא נים זים ניול ם זי ייטרא איני פאל של הער מער מער מער מא לא מער מער מא לא מער מער מער מא לא מער מער מא לא מער מער מער מא לא מער מער מער מא לא מער מער מער מער מא לא מער	28.3.	
وْدْمُورْ سِرْوْوْسْ مُرْوْرِ صَارْقْ شَرْسْ 7 (رَجْدُ) فَرُوْرُدُ مَسْدُرِ صِرْوْدُورُ صَرِفْرِهُ وَرُولُ		
دُرْوَرْوْ مِرْدُوْرْ مِرْسُورٍ صَرْدُ رِدْرُو 7 (رَجُرُ) دُرُورُوْ مَهُوَدُهُ صِرُوْدُهِ صَرِفَهُو وَرُرُوُ وَرُووُ وَرُووْ وَرُولُوا وَالْمُوا وَا		
	28.4.	
ניים (כ) 0 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	28.4.	

رُهُ وَرُسُ وَرِسُ كَرُورُ رُورِ رُمْرَ وَرِيرَوَ وَرُدُورُ وَرُورُورُ وَرُورُورُ وَرُورُورُ وَرُورُورُ وَرَدُورُورُ	29.1.	مَعْ وَسُرَّ وَرِبُّ 29.
ים ", 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		مر مع وسر
مَعْ وَسُومُ وَرِبُ وَمُعْمُوسِ وَحَمْدِ وَمُوعُوعُ فَحْرُو مُدُو - 250,000/ (مُؤَوْمُ وَمُرْسُبُ	29.2.	ב אריים ב מיינש
رُّ وَ رُرُودُ * دُرُورُ اللهِ اللهُ ا رُسِّ اللهُ ال		
الله الله الله الله الله الله الله الله	29.3.	
ברני ימו מרום ה לתום מדי בתרום מינים בתרום מינים בתרום מינים בתרום מינים בתרום מינים בתרום מינים בל המינים בתרום במינים בל המינים בל המ		
מנים ל מיל לל מיל לל מיל מיל מיל מיל מיל מיל	29.4.	
בריניניט מייניני ידעם בפראום בר ברינינים ברים ברישים בריני בשקטאם שתטעית ידעם בפראום בר ברינינים ברים ברישית ידעם		
در و و و د د د و د د د د د د د د د د د د		
رَعْ وَسُرْ وَرِبُّهُ مُحْدُر قُرْمَرُوسٍ وَسَوْمَوْدُ قُرْمُ رَدُدُ كُولُ الْوَسِمُ الْمُعَالَى الْمُعْدَرُ وَسُومُومَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَاللَّا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ ا	29.5.	
رُدُوْدُ مُدْدُرُ وُ رُدُرُمُ وَ رُدِ رُوْ وُرُوْ وَرُدِ وَرُو وَرُدِ وَمُو وَرُدِ وَمُو وَرُدُ وَرُدُورُ وَرُدُ		
سَرُوعَ رِخْرُونُ رُجُرُونُ رُجُرِيً وَرُحُونُ ﴿ مُومُونُ مِنْ مُعْرَفُهُ فَوْرُ مُدُودُ سِرَاحُهُمْ		
رْسِرْتْ يَرْ يُعْرُدُو.		
وَوَدُرْ رَسَرَمًا دُوَرٍ - 250,000 مُرِورُمُرُومُ وَمِدُ دُورِدُ رُخَرَمًا وَمِوْرُ رَاحِرُهُمْ وَمِ	30.1.	يُر مرود سرم
وَيُرُونُ سَهُمَانُرُ وَتَقَوْمُانُونُ صَمَانُونُ شَوْهُ وَرِعُرُمُ وَدُرِ وَكُرُونُ وَرِبُونُ وَرِبُونُ مَاوُ		) י 0 2 אرسر ש
رسوع د شامرتس و برخره مور وسمار و المراد و المراد و المراد و المرد و ا		
) י 0 × 2		
צָּת בַּלְינִים בֹּת מִים בְּנִים בְּתְינִים בְּנִים בּיִּם בְּנִים בְּנִים בּיִּם בְּנִים בּיִּם בְּנִים בּיִנים בּיִנים בּיִנים בּיִנים בּיִנים בּיִּנים בּיִנים בּיִנים בּיִנים בּיִּם בּיִנים בּינים	30.2.	
دُنْ عَرِي مُرْدُ مُرْجَدِ وِسُورُ وَوَسَادُمُ مُرَادُونُ مِرْسُرُونُو مِرْسُرُونُو مِرْسُرُونُو		
ه مولاندورورد ، درگذره دررگزرگ م مردرج مردورو مردورود. هم مولاندورور ، درگزرگرد م مردرج مردورود مردورود		
יי פינים אינים אי	30.3.	
وور گرده کار د کرد در و ورو کرسر سور دس مع د کا سکورس و اور کرد کام کام		
ور در و سر در و سرور و در		
وَرِ وَسَوْرَاهُو \$ (وَرَدُ) رِسْسَارُهُرُو \$ وَرِبَّ بِرَعْشَسْرُو دُوْوَرِ وَسَوْرَاهُ	31.1.	برغ سرمير عير سنوسر 31.
وْمِرْدُ نَهُوْدُورُ، مُنَوْدُ وِمْسْ عِوْسْ عُومُونُهِ وَمُعْرِ وَسْرَةُ وَوْرُسْ وَمِدُسْ		
6- ('\alpha\		
مَرْرُوْهُ دُورِدُرُهُ دُورُدُورُ 17.09 دُرِ صُرَّرُورُو دُورُورُ وَمُرْدُرُ مِ وَرُدُرُدُرِ دُورِدُ	32.1.	32. 1-23
رَوْدُرُ لَا لَا لَا لَهُ الْمُؤْرُدُ وَلَا لَهُ الْمُؤْرُدُ لِللَّهِ الْمُؤْرُدُ لِللَّهِ الْمُؤْرُدُ الْمُؤْرُدُ لَا		13355
بَرْدُوْنْ مُرْفُسِ، مُرْدُوْفُوْدُ دُّوِرْدُرُمُوْفُ" سَعَرِيْدُوْمِ سَرْسُوفَيْ 13-K/CIR/2018/01 دُ		036 Jin 03
عَ وْوَوْ 17 وَرِوْ " وَوُوْلًا وَرِوْدًا وَرُوْدُورُ وَرُدُورُ وَرُدُورُ وَرُدُودُ وَرُسَاوُ وَوْدُورُ		
/ ( ( מ ) ארט ב ( ( מ מ ) מ ארט ) קר קיט איינד		

مَرْدُوْدُهُ دُوْرُمُرُوْدُ دُوَّمُوْدُ 17.09 دُر صَرَّتُوْدُوْ دُوْرِسْ صَوْدُمُدُر دُوَّدِيً	32.2.	
010 C 1 00000 0000 00000 00000 00000 00000 0000		
13-K/CIR/2018/01 كَ يَخْرُونُو 18 دُرِقُ "صِوْسٌ مِدْرُوسْرَانِدِ دُوْرِدُ وُبْمُوسْرُقُ		
הציר של מל באר ב'רושל (מ'ל ב'ר-ב'מ'ב' ב'ב'ל" PR-14 ב'ב'ימים.		
مَرْرُوْهُ دُورِدُمْهُ دُورُدُهُ 17.09 دُرِ صَمَّرُ مُرَدِّ دُورِسٌ صِرُوْدُ دُورِدُ	32.3.	
יל לי על מית פרפת העל לי		
שיים ב ידים ד (מ'ב") ב פ'ר'ל שאיצותי ב'תרים יתיים בתי ב'תרים יתייקב ב'ל ב'תרב'לים		
وَرُسُورُ رُمْرُرِ وَمُرْمُونُ وَرُورُونُ وَوِرْمُرُونُ سَعِرِدُونِ سَرَوْم سَرُونُ -13		
K/CIR/2018/01 و عَرْوَرُ 19 وَرِوَّ " مِوْدُوْ وَرُسْوَرُرُدٍ وَدِوْسُ وَرُرْدٍ		
رِّرِ مَرْدُدُ عَوَّهُ" PR-14 كُرُوسُ عَوَّهُ هُرُورُمُرْسُرُ رُسُرُوسُرُورُو.		
مَرْرُوْدُهُ دُوْرُمُرُدُهُ دُوْرُمُورُهُ 17.09 دُر صُرَّرُورُو وُرُورِسٌ صِوْرُدُورُ دُورُورُ	32.4.	
יל לי ל		
מטיני זים נייס מייס מייס מייס מייס מייס מייס מייס		
רין אין זין קיקריק בנייקריפרי		
מולפט באחמפט בפרבט שם 17.11 בר שחממת ברע בברח של בחבר	33.1.	33. 33. 56.35
בְכַּע כֹמִי־חֹפָלִיער צִׁנְצִיל רְבִּנְצִילִימִעל תُבָּע בֹּבָבׁ "כֹּי־חֹפָּבֹרֹב צִבְּבֹּל עֹבָּב		0/36 73/0
مَرْ رَمْرَنْدُوْدُورٍ، وَمُوْمُوْدُ دُّوِرْمَرُهُونُ سَعِيرِمْوَمَ سَرَمُومَ 13-K/CIR/2018/01		הפל את אפר
ى غَرْوَوْ 21 كَرِهُ " ﴿ وَمُرْوَعِيرًا ﴿ وَوَدَى وَرُسْوَ رُوْسٌ هُوْرِ وِسْرُوسٌ رُورِ الْهِ وَوْدَى		0/ × //8/2/
وَرُسُورُ رُوْرٌ عُوْ وَسَمَّ وَرُو بِرِورٌ كَوْعِرْدُ وَرُسُورُ رُرُزُو وَوْ - رُورُو		03 ( / 3 /2/2007
ב' צ'רע" PR-16 צבית רע'ר ב' מינים.		

## 

	0100 ענ01110 מניצית א תונים א	#
	صور ( رَرَرُهُ وَمُرْوَمُ ( رَرَرُومُ وَ عُرِيرُومُ اللَّهِ مِنْ مُومِ عُمْ وَصُوعُ ( خَرُورُو 1 )	1
ה ממנוני מ ממפית הפ	ים ביל ליל האל באל לילים לב האל האל האל האל האל האל האל אל אל האל בא האל אל אל האל ביל האל אל האל בישים בישים בי	. 0
	ع وَسْرُ رَسْرَيًا كُوْدُ ( فَيَ فُرُوَدُ 2 )	2
	المسرور الراقة على مرمور الماريم و المسارع الرورو وكروري والأبرى مرم مرم المراية	3
	رْرَرَدٌ وْرَدْرَدُ وْرَحْدُو (حُوْدُ حَدْدُ حَدْدُ 4.4 ، 4.2 ، 4.4 وَعِرْ 4.4)	4
	رْسَرَيًّ وَسُمْوَدُ وَمِرْوَرُو (عَ مُرْوَرُ 3)	5
	چِ رُسْمِ عَرِي سُوعَ مُنْ سُورُ مُ عُرِيرًا عَلَمْ إِلَى دُرْسُ، عِ رُبُرُ مُرْمُ مُرْدُ )	6
	ر و و در در و در	7
	عِهُ سَارِبِمِ عُ خَمْدُرِ فَحْرُو مُ 12000.00 (عُمَرُ رَّبُ وَرُورِ بَرُورً) كُ سَابِرِعٍ	8
י התקיסות חפי. י התקיסות חפי	ים בנול ב ק'ית בנול באל באל באל באל באל באל באל האל האל האל באל יופאל הפיקב באלים באלים באלים באל יופאל באלים באלים באלים	8
_	هِ وَسَرَ رَسَرَةً وَسَهُ مَمَّدُ ذَسْرَهِ وَسَهُ مَنْ مَ هُمَ مِفَّهُ وِهُ سُمِّهُ هُو فَ قَرْوَثُو 5 تُرِمِرُوَكُمْ رَسَرَةً وَدِ (هِ وَسَرَ مُرْمَةُ 16.2.1 ءُ وَرَسُرُ)	9
	وَّوٍ مَرْوِثْ صِوْسٌ رَمْرَءٌ وَمُدَّهُ وَّوٍ مَرْوِثْ سَّصِهُ لَهُوَدُ رَمْرَءَسُوعٌ وَرَمْرَهُمُ (صِوْسُ وَهُذَى 16.2.2 تَ مَرْسُر)	10
0 / 0 : ( : 2 ) الرسولو لا بحرو 2	رُسْ رَسَرَنَدُرِثْ جِيرِيْ رُجِوعٌ وَرُوْدُونُ وَمِرْ رِهْوُدُ دَيْرِ رِهْمُوهُ وَثْرُ شُوعَ سُمْسَوَ جِوْسٌ سَ	10
	מיני מיני מיני מיני מיני מיני מיני מיני	
	(יריני) מינייי (יריני) איניייי (יריני) אינייייי איניייייייי אינייייייייייי	11
	ייי בר הייני הייני ביל בר (מפת הייני ב פאת הייני מפת ביל הייני הייני הייני הייני הייני הייני הייני בפאר)	12
	ייי פרסע צר אי שרעת פר אי איי איי איי איי איי איי איי איי איי	13
	هِ وَدَى كُسْرِةِ هُرُدُ رَبِي وَمِسْرُسْرِ هُ رِسْرِيْ مَسْرِ لَا لِمِ مِنْ مِنْ مَارِّدُ لِمِنْ مِنْ مَارِّد	14

June 17, 2019

# 2 - 368 E

	2022 ( 2011 2012 0 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
	.1 سَرُسُرُ
	١. ا دغ برسو
	מר בני מאר
	و × ١٥٥١ مر و 2 . فر مرد ع د سرسر
	2 مرور سرسره بر 2
	ייין ניי ניי מייי ניצוא מצה במקם
	3. 3. 3. 3.
	ي رُدُو. ع
	:30 103 30 708
	3. وَوْرُ مُدُو مُرْمِرُ وِمُرُدُرُ
	3. دُرُورُو (عُسُرُورُو وُسُورُدُرُ رُحُسُرُدُوسُ)
	2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	وَجِهِ وَمِهُ وَمُرْسُرُ وَرِهُ وَسَهُ مَاهُ الْمِدْوَةُ فَيَكُمْ تَارُّمُ وَرُورُ وَ وَالْمَاهُ الْمِدُورُ وَ 4. وَرَبُ وَجِهُ وَرِهُ وَرِهُ دُرُورُ وَ وَسَادُمَاهُ شَوْهُ لِمُوْهُ وِرُوهُ وَلِدُ
ת הל תמיל ל הל א מיש ל משל ל א א ל ל א ל הל ל ל א ל הל ל ל א ל ל ל ל	רבי בן רבי בי כי כי רי ייסיס   בי סי כי בי כי ייסיבי או האל בית בי הייסים   בי סי בי בי כי ייסיבי או האל בית בי הייסים או האל בית בית בית הייסים או האל בית
	4. وُسِرِيْ 14 وُوُرِّهُ مُحَرِّهُ وُسُوْرَاهُ وُسُورَاهُ وُرَّهُ وَرَّهُ وَرَّهُمُ مُوْرَةً وَالْمَاءُ وَالْمَ (مُرَاءُونُونُ
# 1	
	و ما توسر شراع گا 90 فری شرک کرد کرد و ما توس کا گافوند کرد در در کا در در کا
	4. \(\lambda \) \(
	0 2 % - 41.7 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
	هوس رمزری ویموس م در
0/ 92	ريش ا
344,7	
1761	33
175-	پرد پرد

#### 3 - 3532 2002 - 352 2002 - 352 2002 - 352 2002 - 352

	יון און אור אור און אין אין אין אין אין אין אין אין אין אי	<i>i</i> .1
	سرَية	1.1
	برَجِ سُوعٍ بِرُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُن	1.2
	و در گر د این در	1.3
	برُق وه بر سرسره بر / رُد. یه . سره بر	1.4
	۵ ۵ ۵ ۵ ۱ ۱ ۱ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵	1.5
	ב . תריים שיני ניתיית שי ג ב . תריים שיני ניתיית שי ג	1.6
	ים כ - 0 - 2 2 עק התמת 6 אינ 2 עק התמת 6 אינ	1.7
	0 (0( 0 ( × 21 7121	1.8
י מ מ מיני מי איני מיני מיני מיני מיני מ		•2
ر با د ع ر د در و د د م در در د د م د د در در د د م د د د د	ورودون مرومو وتروش ومرؤم مرسرو فير	•
7 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ייק פיק היק הוק	#
0 -> 0 -> 0 -> 0 -> 0 -> 0 -> 0 -> 0 ->	 	• ·3
253	سر سر	#
	(د کورنج در	
	ם כ 20 כ 1/2 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20	.4

## 

....Name or Letterhead of The Business Entity: (Sole Propriatorship / Partnership / Corporative Society / etc).....

## Income Statement For the Year Ended December 31, 20...

MVR	MVR
-	
-	
-	
_	
-	
-	
	-
	-

Name of the Authorized Signatory: Authorized Signature:

Note: This Income Statement must be completed and submitted by Bidders except the Companies registered under the Companies Act (10/96). Companies are requied to submit the Financial Statements as indicated in part 16.2.2 of this document.

ئَ تُرَوُّو 5 ( زُرُدُ) دُرُیْدُ جَمِیْدُد مِیْرُدُو دُوْرُدُ دُسُرُرُووُ دُسُرُرُووُ دُسُرُرُووُ دُسُرُرُووُ

	ر در	01011 110× 1711 010× 1712 1717 5813 .	מנים מנים מנים מנים מנים מנים מנים מנים		
ב' ב	3/1/ 428496-13		31015	ר - 'ק'ר ' ל' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	#
	:5°2'			]	L

<sup>\*</sup> و كِبردُّر دُنْ وَسَادُنَا هُ عَهْمِ عُنَا بَرَسُورُ وَرَبُوسُوسُرُو وَسَادُنَا هُ هُ يَبِعُو بِالْرَسُورُ وَبِرُو نَاوُدُو وَ وَالْمَالُودُ وَسَادُنَا هُ هُو يَبِعُو وَالْمَالُودُ وَالْمَالُودُ وَالْمُنَافُونُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنَافُونُ وَالْمُنَافُونُ وَالْمُنَافُونُ وَالْمُنَافُونُ وَالْمُنَافِقُونُ وَالْمُنَافِقُونُ وَالْمُنَافُونُ وَالْمُنَافُونُ وَالْمُنَافُونُ وَالْمُنَافُونُ وَالْمُنَافُونُ وَالْمُنَافِقُونُ وَالْمُنَافِقُونُ وَالْمُنَافِقُونُ وَالْمُنَافِقُونُ وَالْمُنَافِقُونُ وَالْمُنَافِقُونُ وَالْمُنَافُونُ وَالْمُنَافِقُونُ وَالْمُنَافِقُونُ وَالْمُنَافُونُ وَالْمُنَافِقُونُ وَالْمُنَافِقُونُ وَالْمُنَافُونُ وَالْمُنَافِقُونُ وَالْمُنَافِقُونُ وَالْمُنَافِقُونُ وَالْمُنَافِقُونُ وَالْمُنِافُونُ وَالْمُنَافِقُونُ وَالْمُنَافِقُونُ وَالْمُنَافِقُونُ وَالْمُنَافِقُونُ وَالْمُنَافِقُونُ وَالْمُنَافِقُونُ وَالْمُنَافِينِ وَالْمُنَافِقُونُ وَالْمُنَافِقُونُ وَالْمُنَافِقُونُ وَالْمُنَافِقُونُ وَالْمُنَافِقُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُ

## 

* ב " " " " " " " " " " " " " " " " " "	א מים אין אינו הים אינו אינו אינו אינו אינו אינו אינו אינו	د د	× ر ر ر ر و ۶ ر ر ر ر و ۲ ر ر ر د ۲ ر ر ر د
3/	زيرز رميرو ريز ريز (ريز ريز مين × 15 (ريز مين و	באיל פש בָּתְּמָשׁ בַּתְּפּׁתּתְפּ ()	15
ק'יס" מיק מיב זקים מיב זקים מיק מיק ביית פ' זק	و هارش و گرف هر فرد کرد هوس و و سام مورد در د	ر ۵ و و و و و و و و و و و و و و و و و و	70
20,0x 20,0x 2,00,0 5,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3	(ر) گُرُهُ وَ وَرَدُ وَرَدُو وَ مَرَدُو وَ مَرَدُو وَرَدُو (رَرُدُو رَرَدُو (رَرُدُو (رَرَدُو وَرَدُو (رَرَدُو وَرَدُو (رَرَدُو وَرَدُو (رَرَدُو وَرَدُو (رَرَدُو وَرَدُو رَرَدُو رَرَدُو رَدُو وَرَدُو وَالْمُو وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَال	بگری در	10
د م نگ و کرمسر نگ و کرمسر	(<) פ פ פ ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב	﴿ وَهُ مُرَدُّوْهُ وَمِسْرَهُ وِ مَا يَهُ كَامِرُهُ وَوَ مَا اللَّهُ اللَّهِ وَهُوْ وَوَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ	5

#### בנים אלי מית: מַלְנָּתְבֹת שׁתמש בַּתְרֹבְ 4 שׁתב תמיים מול מיל בנישר במקנופת תמיים בעל על ב בנים משל מית: מַלְנָתְבֹת שׁתמש בַּתְרֹבְ 4 שׁתב תמיים מול מול בנישר במקנופת תמיים בעל בנים ביית בנים ביים ביים ב-מולם

June 17, 2019

	(ת) ביצב ב או ב' ה' ב' ה' ב' ה' ב'	
	ב 2012) בערת תקשתתם.	
100		ر و ر م ح ر ر
60	י 0 ט א א י 0 0 - דעימ ל א א קריינת ש - דעיינ ל א א י א א ריינת ש	0 ( 1 3 / C E E E E E E E E E

\*הפקרה שיתצה שקפת שיקברהרי רקרנצותם בשרטם תתבעת עיקברים קדיתקסטיר שקה פיצופדו 5 האדי צופר דירצותם בארטילפטיר ה'מתשילי באייריל ביציקלי קדית ציקרב עציבר שקפת באייריל ערצותם לקני ליקרי ליקרי באיירי באיירי באיירי באיירים שלם שורים של מרוכנים

## سولاستوس 4 - وسور المركزة كالمورود

\*وَسَهُرُمَهُوْ رُدُ رُمِرُ وَمُرْوَسٍ جَهُوْ مُرُو بِرَوْمُوسُورُ جُرُورُ وَمُرْمُ وَمُرْمِنَ وَمُومَوْ وَمُرَبُ وَمِهُوسُورُ



#### **Ministry of Environment**

Republic of Maldives

#### TERMS OF REFERENCE

## Dismantling, Transferring and Installation of an Incinerator from K. Thilafushi to K. Maafushi

#### Introduction

The Ministry of Environment (ME) is currently designing to establish a solid waste management system in **K. Maafushi**. In order to establish the system, the Ministry has included an incineration facility in its plan for **Maafushi**. Therefore, ME has decided to dismantle, transfer and installation of one unit from the incineration facility in K. Thilafushi to **Maafushi**.

The ME has procured and installed an incineration facility that includes 5 individual incinerators of Inciner 8-700 model with a capacity of 4 tons/d each at K. Thilafushi. Since a larger waste management facility is being planned and designed for Thilafushi by ME, the installed facility mentioned above is expected to be redundant. However, those individual incinerators can be utilized in other islands with lower waste generation.

Therefore, ME seeks a contractor to dismantle, transfer and installation of an incinerator from K. Thilafushi to **K.**Maafushi and invites bids. The contractor is expected to carry out the following works.

#### 1. Mechanical Works

#### A. Dismantling at K. Thilafushi.

- 1. One incinerator from 5 of existing incinerator has to be dismantled and transport and re install at the new island and re commissioning has to be done as per the standard commissioning procedures.
- 2. Control cabling and power cabling has to be isolated including Programmable Logic Controller (PLC) communication cables of each panel board.
- Ethernet cables from each remote monitoring system has to be program as per the PLC software before then de terminated.
- Once the control /power/communication cables de terminated from the panel and the instruments, each sensors
  and instruments have to be dismantled.
- 5. Once the instruments and sensors dismantle from the incinerators, main incinerator and secondary combustion chamber and the venturi scrubber, chimney has to be dismantled.
- 6. PLC of the rest of the 4 incinerators has to be re programmed to run individually since the 5th incinerator is taken out.

## בְּצִבּ שִׁמֵּי מִתִּי מְּבְּנָתְצֹתְ פֹתְמָבְתְ בְּ בְּתֹבְ בְ בִּתְצֹתְ בְתְ בְּתְצֹתְ בְתִּבְתְבֶּתְ בְתִּבְתְבְּתְ בְתִּבְתְּבְּתְ בְתִּבְתְבְּתְבֹּתְ בְתִּבְתְבִּתְּבְּתְ בישורים

June 17, 2019

- 7. Dismantling of burners, sensors, and instruments has to be done only by a professional engineer who has experience in thermal engineering.
- 8. Re programming of existing 4 incinerators has to be done by authorised programmer as per the requirement by the supplier.

#### **B.** Logistics

- 1. For the dismantling and handling has to be done only by a crane above 25ton capacity.
- 2. Handling of incinerator and chimney by using and wheel loaders and excavators are not allowed.
- 3. Inland transportation has to be done only by trailer.

#### C. Installation at K.Maafushi.

- 1. Installation main incinerator, secondary combustion chamber, chimney and the venturi by using a crane.
- 2. Installation of burners, sensors, instruments as per the electrical diagram.
- 3. Laying of new cabling as per the electrical diagram.
- 4. Re program whole operation as per the new data.
- 5. Re commissioning the machine with the PLC as per the commissioning procedures given by the supplier.
- 6. Re commission the remote monitoring system and connecting to the main server of the INCINER8 and update the software.
- 7. Once the PLC is programmed and update with new software, new operation password has to be made for different working levels, which should be only done by an authorised electrical engineer with a programer.
- 8. Complete new diesel and water piping circuit has to be done at the new site baed on the new layout.

#### D. Expertise and Knowledge

- 1. The engineer who is handling the whole work has to be qualified in the field of thermal engineering with the knowledge of incinerators, electronics, automation and PLC programming,
- 2. Should be able to work with the OMRON and SIEMENS PLC with remote monitoring applications.
- 3. Engineer should be sound with the knowledge of diesel burner tuning and programming for better emission standards.
- 4. To carry out the whole commissioning process there should be an electrical engineer and PLC programmer who already have knowledge about the incinerator process and the burners.

#### 3 Civil Works and Shed works

Incinerator will be placed in a rain and water proofed shed. The shed will be constructed by the contractor as per the design and drawings provided by ME.

Regarding the civil works the required space is minimum 40 feet x 40 feet incinerator building and maximum as shown in the attached concept drawing. The building needs a special high span truss with steel beams and there should not be any column between the span of the building. This requirement is set to allow for wheel loader access to inside the building (shed) for loading waste into the incinerator. **The design and load calculation report of the steel structure should be submitted to Ministry of Environment for approval**. Final approved drawing ministry should by a stamped by a Structrural Engineer registered in Maldives. Therefore, the price for civil works should include.

- 1. Concrete plinth works
- 2. Floor concrete
- 3. Steel shed with roof
- 4. Side cladding for 3 sides
- 5. Louvers or mechanical exhausts for ventilation
- 6. Brick boundary wall
- 7. Required down pipes and gutters
- 8. Materials, consumables, labour,
- 9. Required roofing lights and power outlet sockets.

#### 4. Bid Price

Bid price shall include both for mechanical and civil works. For the mechanical works CVs of technical experts mentioned in 2D (Expertise and knowledge) should be given in the bid proposal.

مرا شرار عدد المراد الم

998 3847

0 0 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m	" (" ) (" ) (" ) (" ) (" ) (" ) (" ) ("	7.01 8.3.1											ده ده در درم (درس)	0,0,0,, 5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,							
7.7.30	7,730	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	(->>)	
2. 2.2. 2.2. 2.2. 2.3. 2.3. 2.3. 2.3. 2												مرع: مُوكِرُورُ									

سَمْ اللَّهُ اللَّ

#### **Working Site**

The site should be kept clean during the construction work period and should be thoroughly cleaned once the works are completed. Works should be carried out on site in a safe manner to all the workers on site and the people living in the vicinity of site. Disturbance to the neighborhood should be kept to a minimum. Electricity and water supply to the site, during construction period, should be provided by the contractor

#### **Concrete**

Cement conforming to BS standards should be used for all concrete, masonry and plastering works. The cement intended for use should be fresh and should not have any traces of hardened cement in the bag.

- 1. All concrete works should be done using one brand of cement
- 2. Sand and aggregate used for concrete works should be well graded.
- 3. Concrete should be mixed in the ratio 1:2:3 which are 1 part cement, 2 parts sand and 3 parts aggregate.
- 4. All foundations should be cast on a 50mm thick lean concrete layer. The lean concrete should be placed on well compacted ground.
- 5. Concrete should be mixed using a concrete mixer. Concrete should not be mixed by hand. When pouring concrete into the formwork, the mix should be compacted using a mechanical vibrator.
- 6. Aggregate used for concrete works should not be larger than 20mm.
- 7. Sand and aggregate used for concrete works should be clear from dust, mud and other debris.
- 8. All reinforcement bars used for the concrete works should be free from rust and grease that could weaken the bonding between the reinforcement bar and the concrete. Care should be taken to use continuous bars rather than short segments joined by laps.

#### **Masonry Works**

- 1. All masonry work should be done using Cement confirming to BS standards.
- 2. Masonry blocks should be made from imported sand or local white sand sourced from a permitted sand borrow area. The sand should be free from organic matter and other debris.
- 3. Masonry blocks should be made from mortar mixed at 1:5 ratio with 1 part cement to 5 part sand.
- 4. Average size of sand particles should not exceed 5mm.

#### **Plastering Works**

- 1. All plastering work should be done using Cement confirming to BS standards.
- 2. Plaster mix should be made from imported or local sand white sand sourced from a permitted borrow area. The sand should be free from organic matter and other debris.
- 3. Plaster mix should be made by mixing Cement and Sand at a ratio of 1:3 with 1 part Cement to 3 part Sand.
- 4. Average size of sand particles should not exceed 5mm.

#### **Structural Steel work**

- 1. All steel pipes obtained for the work should be new pipes and free from rust.
- 2. Thickness of pipes should not be less than 2.5mm
- 3. All weldings should have protective paint applied on top

#### **Electrical works**

1. All materials used for electrical wiring should comply with MEA standards.

#### **Roofing works**

- 1. All materials used for roofing work should be newly purchased for the project.
- 2. All screws or bolts used for roof fixing should be G.I or Zinc finish screws.

## 



٧٠٥٤ توسر

June 17, 2019

